



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2023/24/4

گورنر HOCHUL کی جانب سے ریاست نیو یارک میں شدید موسم سے متعلق ہفتہ آگاہی شروع کرنے کا اعلان
قومی محکمہ موسمیات کے ساتھ شراکت کا مقصد نیو یارک کے شہریوں کو گرمی کے مہینوں سے پہلے شدید موسم
کے اثرات اور تیاری کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے

23 تا 29 اپریل 2023 کے ہفتے کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ شدید گرج چمک کے ساتھ طوفانوں، اچانک
سیلاب اور طوفان گرد باد کے لیے موسمی شدت کی نگرانی اور انتباہات پر کیا رد عمل دیا جائے

گورنر Kathy Hochul نے آج ریاست نیو یارک میں شدید موسم سے متعلق ہفتہ آگاہی شروع کرنے کا اعلان کیا،
جس میں نیو یارک کے شہریوں کے لیے منصوبہ بندی کرنے اور شدید موسم کے حملے کے وقت آگاہ رہنے کی
ضرورت پر روشنی ڈالی۔ سالانہ مہم ریاست نیو یارک، قومی محکمہ موسمیات، مقامی اور رضاکار ایجنسیوں اور نجی
شعبے کی تنظیموں کے درمیان شراکت داری ہے تاکہ نیو یارک کے باشندوں کو موسم بہار اور گرمی کے مہینوں میں
شدید موسم کے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے۔ شدید موسم میں، تعریف کے مطابق، سیلاب، شدید گرج چمک اور
طوفان گرد باد شامل ہیں۔

گورنر Hochul نے کہا، "شدید موسم اکثر خطرناک اور غیر متوقع ہوتا ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پر تیاری کے لیے
جو اقدامات کرتے ہیں وہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ میں نیو یارک
کے تمام باشندوں کو ترغیب دیتی ہوں کہ وہ اس ہفتے ہمیں سخت موسم سے درپیش خطرات اور ہم اپنے آپ کو بچانے
کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کے بارے میں سیکھنے میں وقت گزاریں اور تباہی کے لیے تیار رہنے کے لیے اپنی
کوششوں میں اضافہ کریں۔"

گرج چمک کے ساتھ بارش اور بجلی کا گرنا غیر متوقع ہوتا ہے اور پیشگی انتباہ کے بغیر بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔
سیلاب ریاستہائے متحدہ امریکہ میں موسم سے متعلق اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے جس میں سیلاب سے ہونے
والی زیادہ تر اموات گاڑیوں کے سیلابی پانی میں بہ جانے سے ہوتی ہیں۔ قومی محکمہ بحر و آب و ہوا (National
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) کی جانب سے 1952 میں ریکارڈ رکھنا شروع
کرنے کے بعد سے ریاست نیو یارک میں 500 سے زیادہ طوفان گرد باد کی اطلاع دی گئی ہے، ریاست کی تقریباً ہر
کاؤنٹی میں اس وقت میں کم از کم ایک طوفان آیا تھا۔

ریاست نیو یارک کے ڈویژن برائے قومی سلامتی و ہنگامی خدمات کی کمشنر Jackie Bray نے کہا، "ڈویژن
برائے قومی سلامتی و ہنگامی خدمات (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)
موسم کی شدید نگرانی کی صلاحیتوں کو بڑھانے، ہنگامی امدادی کارکنان کی تربیت کو بہتر بنانے اور
عوام کو تعلیم دینے کے لیے مقامی، ریاستی اور وفاقی سطح پر ہمارے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ سال بھر کام
کرتا ہے۔ نیو یارک کے ہر مکین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خطرات کو جانے اور اس موسم بہار اور موسم گرما
کے ممکنہ شدید موسم سے پہلے باخبر رہے۔"

گورنر Hochul اور کمشنر Bray نے ہنگامی تیاری کے چار مراحل اور نیو یارک کے مکین خود کو اور اپنے خاندانوں کو آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کی یوں وضاحت کی:

1. گھر، سکول، کام اور باہر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ پناہ لینے کے لیے ایک محفوظ جگہ کی نشاندہی کریں اور جانیں کہ انتباہ جاری ہونے پر کیا اقدامات کرنے ہیں۔ کسی ہنگامی صورتحال کی منصوبہ بندی کرتے وقت پالتو جانوروں کا خیال رکھیں۔
2. کم از کم 10 دن چلنے والے ہنگامی سامان کی ایک کٹ بنائیں۔ فلیش لائٹس، موسمی ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں شامل کریں۔ آپ کے پاس اپنے گھر اور گاڑی کے لیے ایک ایک کٹ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی طبی ضروریات جو آپ کے خاندان کو درپیش ہو سکتی ہیں ان کے لیے منصوبہ بنائیں۔ پالتو جانوروں کے لیے ہنگامی سامان رکھیں۔
3. ان ٹی وی اور ریڈیو سٹیشنوں سے منسلک رہیں جو ایمرجنسی الرٹ سسٹم (EAS) کے پیغامات نشر کرتے ہیں اور مقامی ہنگامی احکامات جاری ہونے پر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ <https://alert.ny.gov> پر NY Alert کو سبسکرائب کر کے اپنے کمپیوٹر یا سیل فون پر ہنگامی معلومات حاصل کریں، یہ ایک مفت سروس ہے جو آپ کو انتہائی ضروری ہنگامی معلومات فراہم کرتی ہے۔
4. اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے طریقوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے اپنے مقامی انتظام ہنگامی حالات کے دفتر جانے کا سوچیں۔ امریکن ریڈ کراس، نیو یارک کیئرز، یا [سالویشن آرمی](#) جیسی تنظیموں کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام دینے پر غور کریں۔

شدید موسم میں بحفاظت رہنے کے گُر

آفت زدہ حالت میں اشیائے صرف

آفت زدہ حالات کے نمٹنے کی اشیاء کو قابل رسائی رکھیں، بشمول:

- فلیش لائٹ اور اضافی بیٹریاں
- بیٹری سے چلنے والا ریڈیو اور اضافی بیٹریاں
- ابتدائی طبی امداد اور رہنما کتابچہ
- ہنگامی صورتحال کے لیے کھانا اور پانی
- بجلی کے بغیر چلنے والا کین اوپنر
- ضروری ادویات
- چیک بک، نقد رقم، کریڈٹ کارڈز، ATM کارڈز

اچانک سیلاب

- سیلاب زدہ سڑک پر کبھی گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں۔ واپس مڑ جائیں اور دوسری سمت میں چل پڑیں۔
- اگر آپ کی گاڑی میں آپ کے آس پاس پانی تیزی سے بڑھنے لگے تو گاڑی سے فوراً اتر جائیں۔
- تیز بہاؤ والے پانی کی طاقت کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ تیز بہاؤ والا دو فٹ گہرا پانی آپ کی گاڑی کو بہا لے جائے گا اور دو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا پانی گاڑیوں کو سڑک یا پُل پر سے بہا کر لے جا سکتا ہے۔

آسمانی بجلی

- 30-30 کے اصول پر عمل کریں: اگر آپ کو بجلی کی چمک دکھائی دینے اور اس کی گرج سنائی دینے کے درمیان وقفہ 30 سیکنڈ یا اس سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی بجلی اتنی قریب ہے کہ آپ کو اپنی زد میں لے لے۔ فوری طور پر محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ آسمانی بجلی کی آخری چمک کے بعد اپنی محفوظ پناہ گاہ سے نکلنے سے پہلے 30 منٹ تک انتظار کریں۔

- آسمانی بجلی سب سے اونچی چیز پر گرتی ہے۔ اگر آپ ارد گرد کے درختوں سے اونچی جگہ پر ہیں تو جلدی سے ان سے نیچے ہو جائیں اور اگر آپ کسی کھلی جگہ پر ہیں تو پنچوں کے بل بیٹھ جائیں۔
- اگر آپ کسی محفوظ پناہ گاہ تک نہیں جا سکتے تو درختوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو تو کھلی جگہ پر پنچوں کے بل بیٹھ جائیں اور کسی درخت سے اس کی لمبائی سے دوگنا فاصلہ رکھیں۔

طوفانی بگولے

- اگر آپ کہیں باہر ہوں اور طوفانی بگولوں کی تنبیہ جاری ہو جائے، تو فوری طور پر پناہ ڈھونڈیں۔ اگر آس پاس کوئی جائے پناہ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں سے سر کو ڈھانپتے ہوئے کسی گڑھے یا نچلی جگہ پر سیدھے لیٹ جائیں۔
- اگر گھر میں یا کسی چھوٹی عمارت میں ہیں، تو تہ خانے میں چلے جائیں یا عمارت کی سب سے نچلی منزل پر کسی اندرونی کمرے میں چلے جائیں۔ کھڑکیوں سے دور رہیں۔ الماریاں، بیت الخلاء اور دیگر اندرونی کمرے بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ کسی مضبوط چیز کے نیچے گھس جائیں یا اپنے آپ کو گدے سے ڈھانپ لیں۔
- اگر سکول، ہسپتال، یا خریداری مرکز میں ہیں، تو پہلے سے مقرر کردہ جائے پناہ میں چلے جائیں۔ بڑے کھلے علاقوں اور کھڑکیوں سے دور رہیں۔ اپنی کار سے باہر نہ نکلیں۔
- اگر اونچی عمارت میں ہیں تو، کسی اندرونی چھوٹے کمرے یا دالان میں یا ممکنہ ترین نچلی منزل پر چلے جائیں۔ لفٹ کا استعمال نہ کریں - اس کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔

ذاتی تیاریوں اور شدید موسم میں محفوظ رہنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں:

<https://www.dhSES.gov/safety>

###

اضافی خبریں یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیف | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[ان سبسکرائب کریں](#)